

میں سے کسی ایک کے اصلاحی خطاب کا انعقاد کرے گی۔

حضرت مولانا سید شہیر علی شاہ دامت برکاتہم کی دارالعلوم میں تقرری حضرت شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی دامت برکاتہم دارالعلوم حقانیہ کے قدیم فاضل اور حضرت اقدس مولانا عبدالحق نور اللہ مرقدہ کے اہل تلافی میں سے ہیں۔ یہاں سے فراغت کے بعد کچھ عرصہ دارالعلوم میں ہی تدریس کے فرائض سرانجام دیئے۔ لیکن بعد میں حضرت شیخ کی خواہش پر مدینہ منورہ کی عظیم اسلامی یونیورسٹی تشریف لے گئے۔ وہاں اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے اور تفسیر میں ڈاکٹریٹ کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پاکستان کے مختلف جامعات میں سعودی وزارت اوقاف کی جانب سے دعوت ہوئے۔ آخری بار حضرت مولانا جلال الدین حقانی کے جامعہ منبع العلوم میران شاہ میں شیخ الحدیث تھے۔ دارالعلوم اور حضرت مولانا عبدالحق قدس سرہ کی پرانی خواہش تھی کہ آپ دارالعلوم میں دوبارہ آئیں۔ اور اس کھلے بار بار کوششیں بھی ہوئیں۔ آخر کار حضرت مولانا سمیع الحق دامت برکاتہم کی پر زور اصرار پر مادر علمی میں خدمت حدیث کے لئے آمادہ ہو گئے۔

درجہ تخصص فی الفقہ کا دوبارہ اجراء

دارالعلوم میں الحمد للہ کافی عرصہ تک تخصص فی الفقہ باقاعدگی سے ہوتا رہا ہے۔ لیکن پچھلے دو سال سے یہ سلسلہ چند وجوہات کی بنا پر منقطع ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ محدود تعداد میں سخت امتحان اور کڑی شرائط کے بعد صرف دس طالب علموں کو داخلہ دیا گیا۔

فتاویٰ دارالعلوم حقانیہ کی تدوین و ترتیب

دارالعلوم حقانیہ کے قیام سے لے کر اب تک یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں فتوے نکل چکے ہیں۔ جس کا مکمل ریکارڈ دارالعلوم میں محفوظ ہے۔ جو کہ فقہ حنفی کا ایک عظیم ترین ذخیرہ ہے۔ کافی عرصہ سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے ان فتاویٰ کو مرتب کر کے شائع کیا جائے تو یہ فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی ہوگی۔ اور امت کے لئے یہ ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہوگی۔ لہذا مستم دارالعلوم حقانیہ حضرت مولانا سمیع الحق دامت برکاتہم کی ذاتی دلچسپی کے باعث اب اس کی ترتیب کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ قارئین سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو بخیر و خوبی تکمیل تک پہنچائے۔

مختلف وفود کی دارالعلوم آمد۔

۱۳ مارچ کو اسلامی تحریک طالبان کا ایک وفد دارالعلوم تشریف لایا جو اپنے ساتھ امیر المؤمنین ملا محمد عمر احمد نفلہ کا حضرت مولانا سمیع الحق کے نام خصوصی پیغام بھی ہمراہ لایا تھا۔ وفد نے دارالعلوم کے اساتذہ سے ملاقاتیں کیں اور انکی دعائیں لیں۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے وفد کو مختلف امور میں بیش قیمت مشورے دیئے اور اپنی طرف سے مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔